

شرائط وضوابط برائے کوشش دہندگان (ترہتی کورسز پر کھانے کی فراہمی)

ترہتی ادارہ برائے اصلاح آپاشی کو PIPIP و دیگر ترقیاتی منصوبوں کے تحت کل 483 دنوں پر محیط 151 مختلف دورانیہ کے کورسز برائے مالی سال 2017-18 کا انعقاد کر رہا ہے۔ جن کیلئے تجربہ کار اور شہرت کے حامل سبز ٹیکس / پنجاب سبز ٹیکس / انکم ٹیکس اور پنجاب نوڈ اتھارٹی سے رجسٹرڈ ٹھیکیداران / کیئرنگ / پکوان سرورسز والوں سے 2014 PPR Rules کی شق نمبر 38(a) ”سنگل سلج ٹو اینڈ یلوپ پروسیجر“ کے تحت کوشش درکار ہیں۔ یہ کوشش درج ذیل شرائط پر وصول کی جائیں گی۔

۱۔ شرکاء ترہتی کورس کو کھانا منظور شدہ مینیو (کاپی لف ہذا ہے) کے مطابق دینا ہوگا۔ شرکاء کی تعداد تقریباً 25 افرادنی کورس ہوگی۔ مینیو میں کسی بھی قسم کی خود ساختہ تبدیلی کی قطعاً اجازت نہ ہوگی۔

۲۔ کوشش منظور ہونے کی صورت میں کوشش دہندہ زیر دستگی کے ساتھ ایک معاہدہ کرنے کا اور معاہدہ کی تکمیل میں کسی بھی قسم کا عذر قبول نہیں کیا جائیگا۔

۳۔ کوشش کے ساتھ پیشگی لاگت کا 400,000 روپے بلور کال ڈیپازٹ بنام ڈائریکٹر وائٹ پیمنٹ ٹریڈنگ انسٹی ٹیوٹ پنجاب لاہور منسلک کرنا ہوگا جو کہ معاہدہ کی تکمیل کے بعد قابل واپسی ہوگا۔ مزید برآں کال ڈیپازٹ کے بغیر کوشش کسی بھی صورت قابل قبول نہ ہوگی۔ کوشش دہندہ اول درجہ میلا مائن کرا کر میلا کرنے کا ذمہ دار ہوگا۔

۴۔ معاہدے پر عمل پیرا نہ ہونے کی صورت میں کال ڈیپازٹ کی رقم ضبط کر لی جائے گی اور قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی جس کے لیے کوئی عذر قابل قبول نہ ہوگا۔

۵۔ کوشش دہندہ کو پکن کی سہولت ادارہ ہذا کی طرف سے میسر ہوگی۔

۶۔ گیس لوڈ شیڈنگ کی صورت میں کوشش دہندہ گیس کے انتظامات کا ذمہ دار ہوگا۔

۷۔ کسی بھی قسم کی نوٹ پھوٹ کی صورت میں کوشش دہندہ ذمہ دار ہوگا۔

۸۔ تمام ورکرز کا پنجاب نوڈ اتھارٹی کی طرف سے تربیت یافتہ ہونا لازمی ہوگا۔

۹۔ کوشش دہندہ کام کرنے والے ورکرز کے کھل کوائف بمہ میڈیکل سرٹیفیکیٹ پنجاب نوڈ اتھارٹی کا جاری کردہ سرٹیفیکیٹ جمع کروانے کا پابند ہوگا اور بغیر اجازت ورکرز میں ردوبدل کا مجاز نہ ہوگا۔

۱۰۔ چونکہ کورسز کا انعقاد لاہور اور پنجاب کے دوسرے اضلاع میں بھی ہوتا ہے۔ لہذا کوشش دہندہ کورسز کے دوران اپنی ٹیم اور میس لوازمات کی آمدورفت کا خود ذمہ دار ہوگا۔

۱۱۔ کوشش دہندہ روزانہ صفائی کے علاوہ ہفتہ میں کم از کم دو دن جامع صفائی کا ذمہ دار ہوگا۔ صفائی کے معاملے میں کوئی عذر قابل قبول نہ ہوگا۔ خلاف ورزی کی صورت میں سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔

۱۲۔ کوشش دہندہ میس میں کام کرنے والے ورکرز کے کھل کوائف بمہ میڈیکل سرٹیفیکیٹ جمع کروانے کا پابند ہوگا اور بغیر اجازت ردوبدل کا مجاز نہ ہوگا۔

۱۳۔ کوشش دہندہ میس سٹاف کے صاف ستھرے لباس، تراشے ناخن وبال اور ایک جیسی پوشاک (یونیفارم) کا ذمہ دار ہوگا۔

۱۴۔ کوئی بھی سرکاری ملازم بالواسطہ یا بلاواسطہ کوشش دینے کا مجاز نہ ہوگا۔ اور کسی بھی خلاف ورزی کی صورت میں پیڈ ایکٹ کے تحت کارروائی عمل میں لائی جائے گی اور کوئی عذر قابل قبول نہ ہوگا۔

۱۵۔ پکن میں کام کرنے والے حضرات کی الگ طرز کی پوشاک (یونیفارم) ہوگا جن کا صاف ستھرا ہونا ضروری ہے۔ پکن میں بنا یونیفارم کے کام کرنے کی ہرگز اجازت نہ ہے۔

۱۶۔ میس کے لوازمات پنجاب نوڈ اتھارٹی کے معیار کے عین مطابق ہونے چاہیں اور کسی بھی کوتاہی کی صورت میں کوشش دہندہ خود ذمہ دار ہوگا۔

۱۷۔ کچھ ترہتی کورسز کا انعقاد پنجاب کے دوسرے اضلاع میں ہوگا جس کے تحت کھانا اور کیئرنگ (ٹینٹ، کرسیاں وغیرہ) کے انتظامات کوشش دہندہ کی ذمہ داری ہوگی جس میں کوشش دہندہ انہی شرائط پر کھانا دینے کا پابند ہوگا۔ ادارہ ہذا کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ ضرورت کے مطابق کورسز کی تعداد میں کمی و بیشی کر دے۔

۱۸۔ کمیٹی کو اختیار ہے کہ پیر اتوانین 2014 کے تحت ساری کوشش مسترد کر دے۔

۱۸۔ کوشش میں تمام سرورسز سرکاری میکسر شامل ہونگے۔ جس کی تفصیل دفتر ہذا کی اکاؤنٹس برانچ سے معلوم کی جاسکتی ہے۔

۱۹۔ کوششز اشتہار کی اشاعت میں دیئے گئے وقت (27 جولائی 2017ء بروز جمعرات صبح 10:00 بجے) تک دفتر ہذا کو دفتری ایام کار (پیر تا جمعہ) جمع کروائی جاسکتی ہیں اور اسی دن صبح 10:30 بجے تمام کمیٹی ممبران اور کوشش دہندگان / نمائندگان کی موجودگی میں کھولی جائیں گی۔

ناظم

ترہتی ادارہ۔ اصلاح آپاشی

پنجاب، ٹھوکریاں بیگ، لاہور

رابطہ نمبر: 042-99238225

مینیو برائے ہاسٹل، واٹر مینجمنٹ ٹریننگ انسٹی ٹیوٹ، پنجاب، لاہور

دن	ناشتہ	وقف برائے چائے	کھانا دوپہر	چائے	کھانا شام
پیر	اٹھہ (فرائی/آلیٹ) + چنے + دسی + چائے + پراٹھا/نان	چائے + بسکٹ	مٹن قورمہ + سبزی + فریش سلاد + رائیہ + روٹی + موٹی پھل	3:00 بجے	دال + روٹی + رائیہ پودینہ + سویٹ ڈش (کسٹریڈ)
منگل	ایضاً	ایضاً	114 مرغ بروسٹ + دال مونگ + روٹی + کولڈ ڈرنک + کچور سلاد + زیرہ رائیہ + پودینہ رائیہ	ایضاً	سبزی + روٹی + رائیہ پودینہ + سویٹ ڈش (کھیر)
بدھ	اٹھہ (فرائی/آلیٹ)، جیم، چائے اور بریڈ + مارجرین ابٹر	ایضاً	فٹس فرائی + سبزی (آلو مٹر) + روٹی + کچپ + کولڈ ڈرنک یا چائیز چکن + ڈیجیٹل رائس + کچپ + کولڈ ڈرنک + پودینہ رائیہ	ایضاً	دال چاول + رائیہ پودینہ + سلاد + سویٹ ڈش (کسٹریڈ)
جمعرات	ایضاً	ایضاً	مٹن قورمہ + سبزی + روٹی + فریش سلاد + رائیہ + فروٹ ٹرانسفل	ایضاً	دال چاول + رائیہ پودینہ + سلاد + سویٹ ڈش (آکس کریم)
جمعہ	اٹھہ (فرائی/آلیٹ)، جیم، چائے اور بریڈ + مارجرین ابکھن	ایضاً	114 مرغ بروسٹ + دال مونگ + روٹی + کولڈ ڈرنک + فریش سلاد + زیرہ رائیہ + پودینہ رائیہ	ایضاً	سبزی + روٹی + سویٹ ڈش (کھیر) + پودینہ رائیہ
ہفتہ	ایضاً	ایضاً	مرغ قورمہ + سبزی + روٹی + کچور سلاد + رائیہ	ایضاً	دال ماش + روٹی + سویٹ ڈش + پودینہ رائیہ
اتوار	ایضاً	ایضاً	مرغ قورمہ + سفید چنے + روٹی + سلاد + رائیہ	ایضاً	سبزی + روٹی + سویٹ ڈش (کھیر) + پودینہ رائیہ

☆ دودھ بوتل پانی 20 لٹر روزانہ (فی کورس) ☆ وینٹیل کوکنگ آئل درجہ اول ☆ چکی کا آٹا ☆ چاول کزل باستی اعلیٰ قسم ☆ دودھ تازہ/خالص ☆ سلاد (لٹا، کھیر، مولی، پیاز) ☆ کلاس کو کھانا پونے سٹم کے تحت دینا ہوگا۔